



## سوال

(542) ٹیلی وژن سے نشر کی جانے والی موسیقی

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا کسی مسلمان کے لیے گانے اور موسیقی کو سننا حرام ہے اور دلیل یہ دی جائے کہ یہ تو ریڈیو اور ٹیلی وژن سے نشر کی جا رہی ہے، ہم تو اسے استعمال نہیں کر رہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

گانوں، ساز، اور دیگر آلات موسیقی کو سننا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتے ہیں اور ان کا سننا دل کو بیمار اور سخت کر دیتا ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ... ۱ ... سورة لقمان

”اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بے حودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ [لوگوں] کو بغیر علم کے اللہ کے رستے سے گمراہ کر دے۔“

مفسرین اور غیر مفسرین اور اکثر علماء نے لکھا ہے کہ ”لہو الحدیث سے مراد گانا اور آلات موسیقی ہے، حضرت الامام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ: کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لیكون من امتی اقوام یستلون، الحر، والحریر، الخمر، والمعازف۔ [صحیح بخاری۔ الاثریہ، باب، ماجاء فیمن یستحل الخمر یمسہ بغیر اسمہ، ح: ۵۵۹۰]

”میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے۔“

اس حدیث میں لفظ ”الحر“ سے مراد حرام شرمگاہ ہے۔ اور ”الحریر“ [ریشم] ایک معروف چیز کا نام ہے جس کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے، ”الخمر“ بھی معروف ہے ہر نشہ آور چیز کو خمر کہتے ہیں، جو کہ مردوں، عورتوں بچوں اور بوڑھوں تمام مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اس کا استعمال گناہ کبیرہ ہے، ”معازف“ سے مراد گانا، طبلہ۔ سارنگی، رباب اور اس طرح کے دیگر آلات موسیقی ہیں، اس موضوع سے متعلق اور بھی بہت سی آیات اور احادیث ہیں، جنہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”اغنیۃ اللغیان من مصائد الشیطان“ میں ذکر فرمایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت و توفیق عطا فرمائے اور انہیں اپنے غضب و ناراضی کے اسباب سے بچائے۔



هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

## فتاوى اسلاميه

ج 4 ص 412

محدث فتوى